



ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے، جس کے اندر وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: "ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے، جس کے اندر وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے" [صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بتایا کہ ہر بالغ و عاقل مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طہارت و نضافت حاصل کرنے کے لیے ہر ہفتے سات دنوں میں ایک دن غسل کرے اس دن وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ یہاں یہ یاد رکھنے کے لیے ان سات دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، جیسا کہ بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کرنا بال تاکید مستحب ہے کسی نہ جمعرات کے دن غسل کر لیا ہے، تب بھی یہ استحباب برقرار رہے گا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے: "لوگ اپنے گھر کے کام کاج خود ہی کرتے تھے اور جب جمعہ کی نماز کے لیے جاتے، تو اسی حالت میں چلے جاتے تھے لہذا ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو، تو بہتر ہے" اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے بخاری کی ایک روایت میں ہے: "ان سے بدبو آتی تھی" یعنی پسینہ وغیرہ کی بدبو لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ اگر غسل کر لیا کرو، تو بہتر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جب بدبو نہ آئے، تو غسل کرنے کی اور بھی ضرورت نہیں ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65084>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

